

174441- فطرانہ ادا کرنے کیلئے کونسا وقت معتبر ہے؟

سوال

سوال: فطرانہ کی ادائیگی کیلئے وقت (نماز عید) متعین کرنے کیلئے کیا چیز معتبر ہے؟ امام کی نماز؟ یا منفرد کی؟ یا نماز کا وقت؟ اللہ آچکے جزائے خیر سے نوازے۔

پسندیدہ جواب

فطرانہ نماز عید سے پہلے ادا کرنا واجب ہے؛ اسکی دلیل میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ: "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کو لغو اور بے ہودہ باتوں سے پاک کرنے کے لئے اور مساکین کو کھلانے کے لئے فطرانہ مقرر فرمایا، لہذا جو نماز عید سے قبل ادا کرے اس کا صدقہ مقبول ہوگا، اور جو نماز کے بعد ادا کرے تو عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہوگا"

ابوداؤد (1609) اور ابن ماجہ (1827) نے اسے روایت کیا ہے، اور البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابوداؤد وغیرہ میں اسے حسن قرار دیا ہے۔

حدیث میں ظاہری طور پر فطرانہ کیلئے وقت کی حد بندی نماز عید کیساتھ ہے، چنانچہ جیسے ہی مقرر شدہ امام نماز سے فارغ ہوگا فطرانہ ادا کرنے کا وقت گزر جائے گا، یہاں منفرد کی نماز کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم منفرد کی نماز کو معتبر سمجھتے ہیں تو اس سے وقت کی حد بندی مشکل ہو جائے گی، چنانچہ امام کی نماز کو معتبر سمجھا گیا ہے۔

لیکن اگر کوئی شخص گاؤں جیسی جگہ میں ہو جہاں نماز عید کا اہتمام نہیں ہوتا، تو قریب ترین شہر کے وقت کے مطابق فطرانہ ادا کرینگے۔

ہوتی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

"نماز عید سے پہلے فطرانہ ادا کرنا افضل ہے، اور جہاں نماز عید کا اہتمام نہ ہو تو وہاں نماز عید پڑھنے کے وقت کا اندازہ لگا کر فطرانہ ادا کرنے کا وقت مقرر کیا جائے گا؛ کیونکہ ابن عمر کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں کے نماز کیلئے نکلنے سے پہلے فطرانہ ادا کیا جائے، اگرچہ ایک جماعت نے یہ بھی کہا ہے کہ: افضل یہ ہے کہ نماز کیلئے عید گاہ جاتے ہوئے فطرانہ ادا کیا جائے" انتہی

"اكتشاف القناع" (2/252)

واللہ اعلم.